



سوال

(167) یہ بے اصل اور باطل چیزیں ہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

صوفیہ کے طرفی اور ان کے مرتب کردہ وظیفوں کا کیا حکم ہے جو فجر اور مغرب کی نمازوں سے پہلے پڑھے جاتے ہیں۔ اس شخص کا کیا حکم ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں آنکھوں سے دیکھا اور ان الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا:

(السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْعُيُونِ وَرُوحَ الْأَرْوَاحِ؟)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آپ نے صوفیوں کے جن سلسلوں اور وظائف کا ذکر کیا ہے یہ سلسلے اور وظیفے سب نئی ایجاد اور بدعتیں ہیں۔ انہی میں سے تیجانیہ اور کتاہیہ سلسلہ بھی ہے۔ ان کے اذکار و وظائف میں سے صرف وہی اذکار وغیرہ درست ہیں جو قرآن مجید اور صحیح احادیث کے مطابق ہوں۔ [1]

سوال میں کتانی کے بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور مذکورہ سلام پڑھنے کے متعلق بوجھا گیا ہے تو یہ بالک بے اصل اور باطل قصہ ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کی وفات کے بعد کسی کو بیداری میں نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہی اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ثُمَّ أَنْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَنُحْيُونَ ثُمَّ نَنْحِتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُنْعَمُونَ (المومنون ۲۳-۱۵-۱۶)

”پھر تم اس کے بعد مر جانے والے ہو۔ پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

قیامت کے دن زمین سب سے پہلے مجھ پر سے پھٹے گی۔ [2]



وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

اللجنة الدائمة - رکن : عبداللہ بن قعود، عبداللہ بن غدیان، نائب صدر : عبدالرزاق عحیفی، صدر عبدالعزیز بن باز فتویٰ (۶۳۳)

[1] طریقہ تیجانیہ کے متعلق سوالات ملاحظہ فرمائیں۔

[2] صحیح مسلم حدیث نمبر: ۲۲۷۸۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر: ۴۶۷۳، ترمذی حدیث نمبر: ۳۶۹۳۔ مسند احمد ج: ۱، ص: ۲۹۵، ۲۸۱، ۲۹۶۔ ج: ۲، ص: ۲۶۳، ۵۳۰۔ ج: ۳، ص: ۱۰، ۱۱، ۳۳، ۳۴، ۱۳۵۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ ابن باز رحمہ اللہ

جلد دوم - صفحہ 173

محدث فتویٰ